



لوگو! تم میں سے بعض (دوسروں کو نماز سے) متنفر کرنے والے ہیں دیکھو جو شخص لوگوں کو نماز پڑھانے تو وہ ملکی پڑھانے، کیوں کہ ان میں بیمار، کمزور اور حاجت مند لوگ ہوتے ہیں

ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے (آکر) کہا کہ اے اللہ کے رسول! ہوسکتا ہے کہ میں نماز (جماعت کے ساتھ) نہ پاسکوں کیوں کہ فلاں شخص میں (بہت) طویل نماز پڑھایا کرتا ہے، (ابو مسعود کہتے ہیں کہ) اس دن سے زیادہ میں نہ کبھی نبی کو وعظ و نصیحت کے دوران اتنا غضب ناک نہیں دیکھا آپ نے فرمایا: لوگو! تم میں سے بعض (دوسروں کو نماز سے) متنفر کرنے والے ہیں دیکھو جو شخص لوگوں کو نماز پڑھانے تو وہ ملکی پڑھانے، کیوں کہ ان میں بیمار، کمزور اور حاجت مند لوگ ہوتے ہیں

[صحیح] [اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے]

ایک آدمی نے نبی سے شکایت کی کہ وہ امام کے لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے کبھی کبھار جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، تو نبی نے شدید غصہ ہونے اور لوگوں کو نصیحت کی اور خبر دی کہ ان میں سے بعض لوگ نماز سے لوگوں کو نفرت دلانے والے ہیں، اور امام کو حکم دیا کہ وہ ملکی نماز پڑھانے تاکہ مقتدیوں کو آسانی اور سہولت ہو اور جب وہ نماز سے فارغ ہوں تو ان کی چاہت نماز کے لیے ابھی باقی ہو اور اس لیے کہ مقتدیوں میں بہت سے لوگ کمزوری یا بیماری یا کسی حاجت کی وجہ سے لمبی نماز ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اگر نمازی اکیلا ہو تو جتنی لمبی چاہے ادا کرے کیوں کہ اس سے دوسرے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/11295>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

